



ویمنز انڈر 18 ٹی ٹونٹی ٹورنامنٹ کا آغاز پیر سے ہوگا

- چار ٹیموں پر مشتمل ٹورنامنٹ 18 سے 24 نومبر تک لاہور میں جاری رہے گا

لاہور، 17 نومبر 2019ء:

چار فریقی ویمنز انڈر 18 ٹی ٹونٹی ٹورنامنٹ کا آغاز 18 نومبر سے ہوگا۔ پیر سے شروع ہونے والے ٹورنامنٹ کے انعقاد کا مقصد آئی سی سی انڈر 19 ویمنز ٹی ٹونٹی ورلڈکپ 2021 کی تیاری کے لیے نئے ٹیلنٹ کی تلاش کرنا ہے۔

سکلز ٹوشائن ویمنز انڈر 18 ٹی ٹونٹی چیمپئن شپ 18 سے 24 نومبر تک لاہور میں جاری رہے گی۔ سنگل لیگ کی بنیاد پر کھیلے جانے والے ٹورنامنٹ کے گروپ میچز باغ جناح کرکٹ گراؤنڈ اور فائنل ایچی سن کالج گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا۔

ایونٹ میں شامل ہر ٹیم 14 رکنی اسکواڈ پر مشتمل ہے۔ ٹورنامنٹ کے لیے ٹیموں کا انتخاب ایک ہفتے تک جاری رہنے والے ٹرائلز کے ذریعے کیا گیا ہے۔ ملک بھر میں جاری رہنے والے ٹرائلز میں 900 سے زائد خواتین کرکٹرز نے شرکت کی۔

ٹرائلز کے دوران زونل کوچنگ اسٹاف کی جانب سے ابتدائی کھلاڑیوں کے انتخاب کے بعد عروج ممتاز کی سربراہی میں قائم کردہ قومی ویمنز کرکٹ ٹیم کی سلیکشن کمیٹی کمیٹی نے اسکواڈز کو حتمی شکل دی۔ تین رکنی سلیکشن کمیٹی کے دیگر ممبران میں اسماعیلہ اقبال اور مرینہ اقبال شامل ہیں۔

عروج ممتاز، چیئر آف سلیکشن کمیٹی برائے قومی ویمنز کرکٹ ٹیم:

چیئر آف سلیکشن کمیٹی برائے قومی ویمنز کرکٹ ٹیم عروج ممتاز کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی انڈر 19 ویمنز ٹی ٹونٹی ورلڈکپ 2021 کی تیاری کا آغاز کر دیا ہے اور انڈر 18 ویمنز ٹی ٹونٹی کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

عروج ممتاز نے کہا کہ حالیہ برسوں میں پاکستان میں خواتین کرکٹ تیزی سے فروغ پارہی ہے اور ٹرائلز میں 900 سے زائد خواتین کی شرکت اس کا عملی ثبوت ہے۔

انہوں نے کہا کہ خواتین کرکٹ میں ایچ گروپ کرکٹ سے قومی خواتین کرکٹ ٹیم کے لیے کھلاڑیوں کا پول بڑھانے میں بھی مدد ملے گی۔ عروج ممتاز نے کہا کہ پی سی بی کے ہائی پرفارمنس سنٹرز میں تربیت سے ان کھلاڑیوں کی کارکردگی میں مزید نکھار لایا جاسکے گا۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk